



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورۃ یس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یس

.1

یا سین

وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ

.2

قسم ہے اس کے قرآن (حکیم) کی۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

.3

تو تحقیق (یقیناً) ہے بھیجے ہوؤں (رسولوں) میں سے۔

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

.4

اوپر سیدھی راہ کے۔

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

.5

(یہ قرآن) اتارا ازبردست رحم والے کا۔

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَءَ آبَاؤُهُمْ

کہ تو ڈرائے (متنبہ کرے) ایک لوگوں کو، کہ ڈر نہیں سنائے کے باپ دادوں نے،

فَهُمْ غَافِلُونَ

سو وہ خبر نہیں رکھتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ثابت (پوری) ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانیں (ایمان نہ لائیں) گے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ

ہم نے ڈالے ہیں انکی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں (جکڑے) ٹھوڑیوں تک، پھر انکے سر اُل (اکڑ) رہے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

اور بنائی (کھڑی کر دی) ہم نے ان کے آگے دیوار، اور ان کے پیچھے دیوار،

فَأَعْشَيْنَهُمْ فُجُورًا لَّا يُبْصِرُونَ

پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو نہیں سو جھتا۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

اور برابر ہے ٹونے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا یقین نہیں کرتے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ

تو تو ڈر سنائے اُس کو جو چلے سمجھانے پر، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے۔

فَبَشِّرُهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَرِيمًا

سو اس کو دے خوشخبری معافی کی، اور عزت کے نیک (اجر کریم) کی۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ^ج

.12

ہم ہیں جو جلاتے (زندہ کرتے) ہیں مُردے، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے، اور ان کے پیچھے نشان رہے۔

وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل (کتاب) میں۔

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

.13

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہادت لوگ اس گاؤں کے، جب آئے اس میں بھیجے ہوئے (پیغمبر)۔

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

.14

جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر)، تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے زور دیا (تقویت دی) تیسرے سے،

فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ

تب کہا، ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

.15

وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا،

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

(انہوں نے) کہا، ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے (رسول بن کر) آئے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ

اور ہمارا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا کھول کر (صاف صاف)۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ^ط

بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو۔

لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَنزِعَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

اگر تم نہ چھوڑو (باز آؤ) گے تو ہم تم کو سگسار کریں گے اور تم کو لگے گی ہمارے ہاتھ سے دکھ کی مار۔

قَالُوا أَطَيَّرْنَاكُمْ^ج مَعَكُمْ

کہنے لگے تمہاری نامبارکی (نخواست) تمہارے ساتھ ہے۔

أَيْنَ دُكِّرْتُمْ^ج

کیا اس سے کہ تم کو سمجھایا؟

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

کوئی نہیں! پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

اور آیا شہر کے پرلے سرے (دور دراز گوشے) سے ایک مرد دوڑتا۔

قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا أُمْرًا سَلِينِ

بولاءے قوم! چلو راہ پر (پیروی اختیار کرو) اُن بھیجے ہوؤں کے (رسولوں کی)۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

چلو راہ پر ایسوں کی جو تم سے نیک (اجر) نہیں مانگتے، اور راہ سبھی (ٹھیک راستے پر) ہیں۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اسکی جس نے مجھ کو بنایا، اور اسی کی طرف پھر (لوٹائے) جاؤ گے۔

ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءِآِهَةً

بھلا میں پکڑوں اسکے سوا اوروں کو پوجنا؟

إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ

کہ اگر مجھ پر چاہے رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آئے مجھ کو انکی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں۔

إِنِّي إِذٍ أَلْفَى ضَلَلٍ مُّبِينٍ

تو تو میں بھٹکار ہوں صریح۔

إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سُن لو۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔

قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

بولا کسی طرح میری قوم معلوم کریں۔

.27

بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرَمِينَ

کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔

.28

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ

اور اتاری نہیں ہم نے اسکی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم اتارا نہیں کرتے۔

.29

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ

یہی تھی ایک چنگھاڑ، پھر تبھی بوجھ رہے (ہلاک ہوئے)۔

.30

يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ

کیا افسوس ہے بندوں پر!

مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

کوئی رسول نہیں آیا ان پاس، جس سے ٹھٹھا (مذاق) نہیں کرتے۔

.31

الْمُيْرُواكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

کیا نہیں دیکھتے کتنی کھپا (ہلاک کر) چکے ہم ان سے پہلے سنگتیں (قومیں)؟

أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

کہ وہ ان پاس پھر (لوٹ کر) نہیں آتے۔

وَإِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

اور ساروں (تمام) میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے۔

وَأَيُّتُهُمْ الْأَمْرُضُ الْمَيِّتَةُ

اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔

أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

اس کو ہم نے جلایا (زندہ کیا) اور نکالا اس میں سے اناج، سو اس میں سے کھاتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

اور بنائے (پیدا کئے) ہم نے اس میں باغ، کھجور کے اور انگور کے،

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

اور بنائے اس میں بعضے چشمے۔

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ^ط

کہ کھائیں اسکے میوؤں سے، اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے۔

أَفَلَا يَشْكُرُونَ

پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے،

مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

اس قسم سے جو آگتا ہے زمین میں، اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں۔

وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ اللَّيْلُ

اور ایک نشانی ہے ان کو رات،

نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ

ادھیڑ (کھینچ) لیتے ہیں ہم اس سے دن، پھر تبھی رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ (ٹھکانے) پر۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ سادھا (نظام) ہے اس زبردست بانبر کا۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

اور چاند کو ہم نے بانٹ (مقرر کر) دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹھنی پُرانی۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

نہ سورج کو پہنچے (بس میں ہے) کہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

اور ہر کوئی ایک گھیرے (مدار) میں پھرتے (گردش کرتے) ہیں۔

.41

وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ

اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھا (سوار کر) لی ان کی نسل اس بھری کشتی میں۔

.42

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

اور بنادیئے ہم نے ان کو اس طرح کے جس پر چڑھتے (سوار ہوتے) ہیں۔

.43

وَإِن نَّشَأْنُ عُرْبَتَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ

اور اگر ہم چاہیں تو انکو ڈبو (غرق کر) دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو، اور نہ وہ خلاص کئے (بچائے) جائیں۔

.44

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

مگر ہم اپنی مہر (رحمت) سے، اور کام چلانے کو ایک وقت (خاص) تک۔

.45

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور جب کہیئے ان کو، بچو اپنے سامنے آئے (عذاب) سے، اور اپنے پیچھے چھوڑے سے، شاید تم پر رحم ہو۔

.46

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو ٹلا نہیں رہتے (منہ پھیر نہیں لیتے)۔

.47

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ

اور جب کہیئے ان کو خرچ کرو (اس میں سے جو) کچھ اللہ کا دیا،

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اأَنْطَعُمُ مِّنْ لَّوِيْشَاءِ اللّٰهِ اَطْعَمَهُ

کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو، ہم کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا،

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

تم لوگ تو نرے بہک رہے ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

.48

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

.49

یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی، جو ان کو پکڑے گی، جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ اٰهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

.50

پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ مریں (وصیت کریں) اور نہ اپنے گھر کو پھر جائیں (لوٹ سکیں) گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاٰجْدَاثِ اِلَىٰ اٰهْلِهِمْ يَنْسَلُونَ

.51

اور پھونکا جائے نرسنگا، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔

قَالُوْا اَيُّوَيْلٰنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِنۢ مَّرْقَدِنَا

.52

کہیں گے اے خرابی (بد بختی) ہماری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ (خواب گاہوں) سے۔

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ اَلْمُرْسَلُوْنَ

یہ (تو) وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے، اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں (رسولوں) نے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

.53

یہی ہوگی ایک چنگھاڑ، پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس پکڑے آئے۔

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

.54

پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ

.55

تحقیق (بلاشبہ) بہشت کے لوگ آج ایک دھندے (دلچسپی) میں ہیں باتیں کرتے۔

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَعْرَابِ مَتَكُونُونَ

.56

وہ اور انکی عورتیں (بیویاں) سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیے لگائے۔

لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ

.57

ان کو وہاں ہے میوہ اور ان کو ہے (ملے گی ہر وہ چیز) جو مانگ لیں۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ

.58

سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔

وَأْمَتُّرُوا الْيَوْمَ أَتِيهَا الْمُجْرِمُونَ

.59

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو!

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءِ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

.60

میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو؟ اے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔

.61

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔

.62

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا

اور وہ بہکالے گیا تم میں سے بہت خلق (مخلوق) کو۔

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

پھر کیا تم کو بوجھ (عقل) نہ تھی؟

.63

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔

.64

أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

پڑھو (داخل ہو جاؤ) اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا۔

.65

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

آج ہم مہر (نقش) کر دیں گے ان کے منہ پر،

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتائیں گے ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کماتے تھے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں راہ لینے کو، پھر کہاں سے سوچھے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

اور اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں انکی جہاں کی تھاں (اسی جگہ)، پھر نہ سکیں گے (آگے) چلنا، نہ وہ اُلٹے پھریں۔

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

اور جس کو ہم الٹا کریں (لمبی عمر دیں)، اوندھا (الٹ) کریں خلیقت (ساخت) میں۔

أَفَلَا يَعْقِلُونَ

پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

اور ہم نے نہیں سکھایا اسکو شعر کہنا، اور یہ اسکے لائق (شایانِ شان) نہیں،

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ

یہ تو نوری سمجھوتی (صحیح) ہے اور قرآن ہے صاف (پڑھا جانے والا)۔

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

تا کہ (کہ) ڈرسنائے اس کو جس میں جان (زندہ) ہو، اور ثابت ہو بات (حجت ہو) منکروں پر۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ

اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے انکو (پیدا کئے) اپنے ہاتھوں بنائے سے چوپائے، پھر وہ ان کا مال ہیں۔

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ

اور ان کو ان میں فائدے ہیں، اور پینے کے گھاٹ (مشروبات)۔

أَفَلَا يَشْكُرُونَ

پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

اور پکڑے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کو مدد پہنچے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ

نہ سکیں گے ان کی مدد کرنی اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔

فَلَا يَجْزِيكَ قَوْلُهُمْ

اب تو غم نہ کھا ان کی بات سے۔

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں۔

أَوْلَمُ يَرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے اسکو بنایا ایک بوند سے، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑتا بولتا۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

اور بٹھاتا (چسپاں کرتا) ہے ہم پر کہاوت، اور بھول گیا اپنی پیدائش۔

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ تَرَمِيمٌ

کہنے لگا کون جلاوے (زندہ کرے) گا ہڈیاں جب کھوکھری (بوسیدہ) ہو گئیں۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

تو کہہ ان کو جلاوے (زندہ کرے) گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

(وہی) جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے آگ۔ پھر اب تم اسی سے سلگاتے ہو۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین، نہیں سکتا کہ بنا دے ایسے آدمی؟

بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ

کیوں نہیں! اور وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

اس کا حکم یہی ہے، جب چاہے کسی چیز کو، کہ کہے اس کو ہو، وہ ہو جائے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف پھر (پلٹ) جاؤ گے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com